



### برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں 28 جون 2021 سے لاگو ہونے والی تبدیلیاں

برامپٹن، آن (17 جون 2021) - برامپٹن ٹرانزٹ کے درج ذیل روٹس میں 28 جون 2021 سے تا حکم ثانی کچھ تبدیلیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو شہر میں زیادہ مؤثر طور پر نقل و حمل فراہم کر رہا ہے:

- **17 ہوڈین:** دوران ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول
- **23 سینڈل ووڈ:** دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے نظام الاوقات ایڈجسٹ کیے جائیں گے اور نئی الیکٹریک بسیں اس روٹ پر نمایاں ہوں گی۔
- **115 پیئرسن ایئرپورٹ ایکسپریس:** دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول
- **200-217 i-Ride سکول روٹ اور سکول کے فالتو روٹس 4/4A، 7/7A، 9، 21، 32 اور 57 کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔**

براہ کرم سفر سے پہلے روٹس کے شیڈول ملاحظہ کر لیں۔ برامپٹن گیٹ وے اور ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے اوقات کار صبح 6 تا رات 9 ہوں گے۔ ٹرنٹی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔ ٹرمینلز کے کسٹمر سروس اوقات کار کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) ملاحظہ کریں۔

سینئر آئی ڈی کی تجدید کی درخواستیں آن لائن طور پر قبول کی جا رہی ہیں۔ کرایوں کے نیچے [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) ملاحظہ کریں اور تجدید کا فارم مکمل کریں۔ آپ کا نیا سینئر آئی ڈی کارڈ آپ کو میل کر دیا جائے گا

اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔ براہ کرم یاد رکھیں:

- ٹرمینلز اور بسوں کے اندر ماسک پہننا لازمی ہیں، ماسک موزوں طور پر پہننے چاہیں اور ہر وقت آپ کی ناک، منہ اور ٹھوڑے پر موجود ہوں۔
- بیشک اگر آپ نے ماسک بھی پہن رکھا ہو، ٹرمینلز اور بس اسٹاپس پر جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں۔
- سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ لائیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔
- اگر آپ بیمار ہیں، تو براہ کرم ٹرانزٹ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ اپنے قریب ترین کووڈ-19 ایسیسمنٹ سائٹ پر ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

### کووڈ-19 کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ، مسافروں کو یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر ماسک پہننا لازمی ہیں۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔

باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے [www.brampton.ca/COVID19](http://www.brampton.ca/COVID19) ملاحظہ کریں اور دیکھیں [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) یا فالو کریں [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) پر ہمیں ٹویٹر پر سروس اپ ڈیٹس کے لیے فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ  
مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)